

سوال

میں سعودی حصص کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہوں، اور میرے کام کی نوعیت یہ ہے کہ حصص کی قیمت خرید پر اگر کچھ بھی منافع مل رہا ہو تو اسے فروخت کر دیا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ میں کمپنیوں کے منافع کا انتظار نہیں کرتا۔

میرا سوال یہ ہے کہ: میں نے الیکٹریک کمپنی میں پانچ ماہ قبل کچھ حصص خریدے جو کہ (172 ریال) فی حصہ کی قیمت سے ہیں، اور خریداری کے بعد اس کی قیمت کم ہو کر (147 ریال) رہ گئی ہے، اور ابھی تک قیمت خرید تک نہیں پہنچی تو کیا ان حصص میں زکاة ہے؟ اور اس زکاة کی ادائیگی کی کیفیت کیا ہو گی؟ کیا قیمت خرید کے مطابق یا کہ اس وقت کی قیمت یعنی (147 ریال) کے مطابق؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اب یہ حصص تجارتی سامان شمار ہونگے، کیونکہ تجارتی سامان پر وہ چیز ہوتی ہے جو فروخت اور تجارت کے لیے رکھی گئی ہو، لہذا اس میں زکاة ہو گی۔

اور تجارتی سامان کی زکاة سال کے آخر میں اس کی قیمت کے حساب سے ہوتی ہے، چاہے وہ قیمت خرید سے زیادہ ہو یا کم۔

اس کی تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر (65515) کے جواب کا مطالعہ کریں۔

اور اس بنا پر جب یہ حصص نصاب کو پہنچ جائیں، یا آپ کے پاس جو رقم ہے اسے ملا کر نصاب پورا ہوتا ہو تو سال کے آخر میں اس کی قیمت کے حساب سے اس کی زکاة ادا کی جائیگی۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے:

"کمپنیوں میں حصص اور شراکت کی زکاة کی کیفیت میں ہم کہیں گے کہ:

اگر تو حکومت اسے شمار کرتی اور اس کی زکاة لیتی ہو تو اس طرح بری الذمہ ہوا جا سکتا ہے، وگرنہ اس میں مندرجہ ذیل طریقہ کے مطابق زکاة واجب ہوتی ہے:

اگر تو ان حصص سے تجارت مقصود ہو تو ہر سال کے آخر میں اس کی قیمت لگائی جائے، اور اس سے دس کا چوتھائی حصہ زکاۃ نکالا جائے۔

لیکن اگر اس سے سرمایہ کاری مقصود ہو اس میں زکاۃ نہیں، لیکن اگر اس کا ماحاصل (یعنی آمدن) روپے ہوں اور اس پر سال مکمل ہو جائے تو اس میں زکاۃ ہو گی" انتہی۔

دیکھیں: مجموع فتاویٰ ابن عثیمین (18 / 196)۔

مستقل فتویٰ کمیٹی سے مندرجہ ذیل سوال کیا گیا:

کیا حصص اور کاغذات (رقم کی سندیں) پر زکاۃ ہے، اور اسے کس طرح نکالا جائے؟

تو کمیٹی کا جواب تھا:

" حصص اور سندوں میں زکاۃ ہے، جبکہ یہ نقدی یا تجارتی سامان کی مثل ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ جس کی ذمہ میں نقدی ہو وہ نہ تو تنگ دست ہو، اور نہ ہی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والا ہو" انتہی۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (9 / 354)۔

مستقل فتویٰ کمیٹی سے ان حصص کے متعلق دریافت کیا گیا جس سے اراضی اور پراپرٹی خریدی جاتی ہے۔

تو کمیٹی کا جواب تھا:

" سوال میں مذکور حصص تجارتی سامان میں سے ہیں، لہذا اس میں زکاۃ واجب ہوتی ہے، ہر برس اس کی قیمت لگائی جائیگی اور قیمت خرید کو مد نظر نہیں رکھا جائیگا، اگر تو اس کے پاس مال ہو تو وہ اس کے ساتھ زکاۃ ادا کرے، وگرنہ وہ ان حصص کو فروخت کرنے اور قیمت وصول کرنے کے بعد ان سب برسوں کی زکاۃ ادا کرے گا" انتہی۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (9 / 353)۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا گیا:

کیا حصص کی زکاۃ اس کی رسمی قیمت کے مطابق ہو گی یا کہ اس وقت مارکیٹ کی قیمت کے مطابق یا کس طرح؟

شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا:

" حصص اور دوسرے تجارتی سامان کی زکاة مارکیٹ قیمت کے مطابق ادا کی جائیگی، لہذا جب قیمت خرید ایک ہزار ہو اور زکاة واجب ہونے کی وقت اس کی قیمت دو ہزار ہو جائے تو زکاة دو ہزار کے حساب سے ادا کی جائیگی، کیونکہ زکاة اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہو گا جب زکاة واجب ہو رہی ہے، نہ کہ قیمت خرید کا اعتبار ہو گا" انتہی۔

دیکھیں: مجموع فتاویٰ ابن عثیمین (18 / 197) .

اس پر متنبہ رہنا ضروری ہے کہ: جب تجارتی سامان سونے یا چاندی یا کرنسی (ریال یا ڈالر یا دوسری کرنسی) یا کسی دوسرے سامان سے خریدا جائے؛ تو اس تجارتی سامان کا سال اس مال اور کرنسی کا سال ہی شمار کیا جائے گا جس سے وہ تجارتی سامان خریدا گیا ہے۔

اور اس بنا پر سامان ملکیت میں آنے کے وقت سے اس کا نیا سال شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس مال کے سال پر ہی سال مکمل کیا جائے گا جس سے وہ سامان خریدا گیا ہے۔

مزید تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر (32715) کا جواب دیکھیں۔

واللہ اعلم .